

حضرت مولانا کریم بخش صاحب کی تالیفات

(مدیر جامعہ عمر بن الخطاب ملتان)

① تفسیر ہذا ابلاغ لنگاس (جلد اول): اصول تفسیر، قرآنی حقائق و دلائل اور تفسیر قرآن سے متعلقہ ضروری علوم کو احسن انداز سے پیش کیا گیا ہے۔

② خلاصۃ القرآن (تراویح کے بعد کے دروس القرآن): اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیغام کو مختصر طور پر سمجھنے اور سمجھانے کیلئے لاجواب ذخیرہ، بیسیوں تفسیروں کا نچوڑ، اور بے مثال خلاصہ۔

③ جوہرات قرآنیہ (جلد اول، دوم، سوم، چہارم): ”جوہرات قرآنیہ“ علم کی پیاس رکھنے والوں کے لئے ایک نایاب تحفہ ہے، جس میں ”قرآن مجید کی تعریف، تفسیر و تاویل اور ان کے متعلقات کا بیان، وحی کی تعریف اور اس کی حقیقت، نزول قرآن کی حقیقت، قرآن کریم کے فضائل، سورتوں کے فضائل، آیات کے فضائل، تلاوت قرآن کے آداب، قرآن مجید کے اہداف و مقاصد، قرآن مجید کے حقوق، عظمت قرآن، خصوصیات قرآن، تدوین قرآن، معلم و متعلم کے لئے نصائح، عمل بالقرآن، مسائل قرآن، اور ان جیسے اور بہت سارے فوائد و نکات“۔

④ سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندانی حالات سے لے کر ذبح اسماعیل و تاریخ بنائے بیت اللہ تک، اور عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و مسائل کا حسین گلدستہ۔

⑤ خطبات کریم (جلد اول، دوم): ”اللہ تعالیٰ کی شفقت و محبت، حضرات انبیاء کرامؑ، نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارک، خاندان نبوت، معجزات رسول ﷺ، فضائل مدینہ، شان صدیق اکبرؑ، تاریخ فقہاء و محدثین، ظالموں اور ظلم کا انجام“۔ جبکہ خطبات کریم جلد دوم ”شب برأت سے لے کر شب قدر تک“ کے بیانات کا حسین گلدستہ ہے۔

⑥ مواعظ جمعہ (جلد اول، دوم، سوم): جمعہ کے خطبات کا مجموعہ، جس میں ”رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات، صاحبزادوں، صاحبزادیوں اور نواسوں، نواسیوں کی پاکیزہ سیرت و کردار“ کا ذکر، محرم الحرام کے فضائل و احکام، انہار غم کا مسنون طریقہ، مسائل زیارت قبور، اسلام میں نجاست کا تصور، توہم پرستی سے اجتناب اور مشورہ و استخارہ کی اہمیت، جیسے عظیم مضامین ہیں۔

⑦ مواعظ رمضان المبارک (جلد اول، دوم، سوم): جلد اول میں رمضان المبارک کے خطبات جمعہ، جلد دوم میں رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد کے دروس احادیث، جبکہ جلد سوم میں روزہ، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ، صدقہ فطر، مصارف زکوٰۃ، بیس تراویح کی مدلل تحقیق، اور عید الفطر کے فضائل و احکام۔

⑧ مسنون زندگی: سلام، مصافحہ، وعظ و نصیحت، نکاح، ولیہ، تربیت اولاد، میاں بیوی کے حقوق، کھانے پینے، سونے جاگنے، لباس اور وضع قطع، بیماری اور عیادت کے مسنون اعمال، اصلاح معاشرہ اور گھریلو معاملات کے رہنما اصول۔

مکتبہ عمر بن الخطاب، ملتان (061-6775251-0306-7332451-0305-5748344)